

برائے فوری اجراء

## برامپٹن کے لیے 12 نئے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کا اعلان کر دیا گیا

برامپٹن، آن (15 ستمبر 2020) – گزشتہ روز، اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ 2020 کے اختتام تک ہماری چار سہولت گاہوں میں 12 نئے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز نصب کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن کو فنڈنگ موصول ہو گی۔ یہ چارجنگ اسٹیشنز سٹی کی جانب سے پہلے کلانیٹ چارج پارٹنرشپ اور نیچرل ریسورسز کینیڈا کے زیرو ایمیشن وہیکل انفراسٹرکچر پروگرام میں شمولیت سے ممکن ہوئے۔

ایک ماحول دوست شہر ہونے کے عزم کے ساتھ، 2019 میں برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر موسمیاتی طور پر ہنگامی حالت کا اعلان کرنے کی منظوری دی، جس کے ساتھ 2050 تک سٹی میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیس (GHG) کے اخراج کو کم کرنے کا ہدف رکھا جا رہا ہے۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز رہائشیوں کی یہ سوجنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ سفر کیسے کرتے ہیں، جو نقل و حمل کے زیادہ قابل استحکام انتخابات کو فروغ دے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں GHGs میں کمی واقع ہو گی۔

نئے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کو درج ذیل مقامات پر نصب کیا جائے گا:

- کیسی کیمپ بیل ری کریٹیشن سنٹر – 2
- لوفرز لیک ری کریٹیشن سنٹر – 2
- چنگواکوسی ویلنڈ سنٹر – 4
- رورسٹون کمیونٹی سنٹر – 4

سٹی کے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کے متعلق مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں

### فوری حقائق:

- سٹی آف برامپٹن موجودہ طور پر مختلف میونسپل پارکنگ لائٹس اور پورے شہر میں سٹی کی سہولت گاہوں پر 53 الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کا حامل ہے، تاکہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو برامپٹن میں رہائشیوں اور کاروباری افراد کے لیے زیادہ آسان بنایا جا سکے۔
- برامپٹن کے الیکٹرک کار چارجنگ اسٹیشنز عوام کے استعمال کے لیے مفت ہیں۔ ادائیگی والے پارکنگ لائٹس میں پارکنگ کی عمومی فیسوں کا اطلاق ہوتا ہے۔
- سٹی کونسل نے جون 2019 میں 2050 تک GHGs کے اخراج میں 80 فیصد کمی لانے کا ہدف رکھا ہے۔ سٹی اس ہدف کے حصول کے لیے کئی اقدامات اٹھا رہا ہے، بشمول شیریڈن کالج کے ساتھ شراکت داری میں ایک کمیونٹی اینرجی اینڈ ایمیشنز پلان (CEERP) کی تیاری۔
- ایک مرتبہ مکمل، CEERP میونسپلٹی، مقامی یوٹیلیٹیز اور کمیونٹی کے اہم فریقین کی کوششوں کو منضم کرے گا اور ایک منصوبہ کار تیار کرے گا، جو توانائی کی بچت کو بہتر بنائے گا، گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لائے گا، توانائی کی سیکورٹی کو یقینی بنائے گا، معاشی فائدہ پیدا کرے گا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف لچک میں اضافہ کرے گا۔
- میئر پیٹرک براؤن گلوبل کووینینٹ آف میئرز فار کلانیٹ اینڈ اینرجی کے رکن ہیں، جو 9,200 شہروں پر مشتمل اپنی نوعیت کا پہلا عالمی اتحاد ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ کی قیادت کر رہا ہے۔

### پہلے کلانیٹ چارج پارٹنرشپ کے متعلق

پہلے کلانیٹ چارج پارٹنرشپ پراجیکٹس پر مل کر اور ایسی فنڈنگ کے حصول کے لیے کام کرتی ہے، جو تنظیم کے ہر رکن کو گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لانے اور موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت اختیار کرنے میں مدد دے گی۔

اس شراکت داری میں شامل ہیں:

- ریجنل آف پیل
- سٹی آف برامپٹن
- ٹاؤن آف کیلیڈن
- کریڈٹ ویلی کنزرویشن
- سٹی آف مسیساگا
- ٹورانٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی

**اقتباسات**

"گلوبل کونینٹ آف میٹرز فار کلایمٹ اینڈ اینرجی کے رکن کے طور پر، میں اس حوالے سے بے حد خوش ہوں کہ سٹی کو برامپٹن میں 12 نئے الیکٹرک ویکل چارجنگ اسٹیشنز کے لیے فنڈنگ موصول ہو رہی ہے۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور مقامی طور پر نقل و حمل کے زیادہ قابل استحکام انتخابات کے ساتھ، ہم ایک ساتھ مل کر اپنی GHGs کو 2050 تک 80 فیصد کم کرنے کے اپنے بلند حوصلہ ہدف کی جانب کام کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"جیسا کہ میونسپلٹی کے کینیڈا کے GHG کے آدھے اخراج پر اثر انداز ہو سکتی ہے، ہمیں یہیں اپنے گھر پر اپنے کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنا جاری رکھنا ہو گا۔ یہ نئے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز استحکامیت کو ہماری کمیونٹی کے لیے مزید آسان بنائیں گے اور ساتھ ہی ایک مزید ماحول دوست شہر کی تعمیر میں ہمارے کردار کو جاری رکھیں گے۔"

- شامین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ چیئر، کمیونٹی سروسز

"سٹی آف برامپٹن کے پیل کلایمٹ چینج پارٹنرشپ کے ساتھ کام کا ملط ہے کہ ایک ماحول دوست کمیونٹی اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک صحت مند ماحول بنانے میں متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ قریبی سے کام کرنے کے قابل ہیں۔ یہ الیکٹرک ویکل چارجنگ اسٹیشنز پورے پیل ریجن میں باہمی تعاون کے بغیر ممکن نہ ہوتے اور ساتھ ہی یہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ماحول دوست فیصلوں کو آسان انتخاب بناتے ہیں۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز

"پورے برامپٹن میں مونسپل کے کئی پارکنگ لائٹس اور سٹی کی سہولت گاہوں میں پہلے سے دستیاب 53 الیکٹرک ویکل چارجنگ اسٹیشنز کے علاوہ، یہ 12 نئے الیکٹرک ویکل چارجنگ اسٹیشنز قابل استحکام نقل و حمل کو ہماری کمیونٹی میں ایک مزید قابل رسائی انتخاب بناتے ہیں۔ عملہ ایک ماحول دوست شہر بننے کی برامپٹن کی ترجیح کو ممکن بنانے کے لیے ہمارے شراکت داروں اور رہائشیوں کے ساتھ کام جاری رکھنے کے لیے وقف ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)